

# Press Release on the Extraordinary Virtual G20 Leaders' Summit

March 26, 2020

## G20 ممالک کے رہنماؤں کی غیر معمولی ورچوئل سمٹ کے بارے میں پریس ریلیز

26 مارچ، 2020

کووڈ 19 وبائی مرض پھیلنے سے درپیش چینجوں پر تبادلہ خیال کرنے اور عالمی سطح پر مربوط رسپانس کے لئے، G20 ممالک کے رہنماؤں کی ایک غیر معمولی ورچوئل سمٹ کا اجلاس 26 مارچ 2020 کو منعقد کیا گیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سے اس موضوع پر ٹیلیفونک گفتگو کی۔ غیر معمولی جی 20 سمٹ کووڈ 19 وبائی مرض سے متعلق وزرائے خزانہ اور سنٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ اور جی 20 ممالک کے نمائندگان کے اجلاس کا اختتام تھا۔

اس اجلاس میں جی 20 رہنماؤں نے وبائی مرض پر قابو پانے اور لوگوں کی حفاظت کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے وبائی مرض کے خلاف جنگ میں ڈبلیو ایچ او کے مینڈیٹ کو تقویت دینے کی بھی حمایت کی، جس میں طبی سامان کی فراہمی، تشخیصی آلات، علاج، ادویات اور ویکسین شامل ہیں۔

رہنماؤں نے وبائی مرض کی معاشی اور معاشرتی لاگت کو کم سے کم کرنے اور عالمی نمو، بازاری استحکام اور لچک کو مستحکم کرنے کے لئے تمام دستیاب طریقوں کے استعمال کرنے کا عہد کیا۔ جی 20 ممالک نے کووڈ 19 کے معاشرتی اور معاشی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے عالمی معیشت میں 5 کھرب ڈالر سے زیادہ رقم لگانے کا عزم کیا ہے۔ رہنماؤں نے رضاکارانہ بنیاد پر ڈبلیو ایچ او کی سربراہی میں کووڈ 19 یکجہتی رسپانس فنڈ میں شراکت کرنے پر بھی اتفاق کیا۔

وزیر اعظم نے جی 20 کا یہ غیر معمولی سیشن بلانے پر سعودی عرب کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ریمارکس میں وزیر اعظم نے وبائی مرض کی خطرناک معاشرتی اور معاشی لاگت کا ذکر کیا، انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ 19 کے 90% سے زیادہ معاملات اور 88% سے زیادہ اموات جی 20 ممالک میں ہوئے ہیں جبکہ عالمی جی ڈی پی میں ان ممالک کا حصہ 80% اور دنیا کی آبادی میں ان کا تناسب 60% ہے۔ انہوں نے جی 20 ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ وبائی مرض سے نمٹنے کے لئے ٹھوس ایکشن پلان پر عمل کریں۔

وزیر اعظم نے انسان کو عالمی سطح پر خوشحالی اور تعاون کے نقطہ نظر کے مرکز میں رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ساتھ میں طبی تحقیق اور ترقی کے فوائد کو آزادانہ اور کھلے عام شیئر کرنے، وقت کے ساتھ ڈھلنے والے والے، ذمہ دار اور انسانی صحت کی دیکھ بھال کے لئے نظام بنانے، ایک آپس میں جڑے ہوئے عالمی گاؤں کو بحران سے نمٹنے کے نئے پروٹوکول اور

طریقہ کار کو فروغ دینے کے لئے ڈبلیو ایچ او جیسی بین سرکار تنظیموں کو تقویت بخشنے اور ان میں اصلاح کرنے، اور کووڈ 19 کے نتیجے میں اقتصادی مشکلات کو کم کرنے کے لئے مل کر کام کرنے، خاص طور پر معاشی طور پر کمزوروں کے لئے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

وزیر اعظم نے رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانیت کی اجتماعی بہبود کے لئے ایک نئی عالمگیریت کے آغاز میں مدد کریں اور انسانیت کے مشترکہ مفادات کو فروغ دینے کے لئے تکثیریت پر مبنی فورم پر توجہ مرکوز کریں۔

سمٹ کے اختتام پر، جی 20 رہنماؤں کا بیان جاری کیا گیا جس میں وبائی مرض سے لڑنے کے لئے ایک مربوط عالمی رسپانس پر زور دیا گیا، اور عالمی معیشت کے تحفظ کے لئے اقدامات اپنانے، تجارتی رکاوٹ کو کم سے کم کرنے اور عالمی تعاون کو بڑھانے کے لئے اقدامات اٹھانے جانے کا مطالبہ کیا۔

نئی دہلی

26 مارچ، 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.